

وقال (عليه السلام) :
إِذَا حَشِمَ الْمُؤْمِنُ أَخَاهُ فَقَدْ فَارَقَهُ .

وقتی مؤمن برادرش را به خشم آورده
به یقین از او جدا شده است .

آپ نے فرمایا : جو چھوٹے مصائب کو بھی بڑا خیال کری
گا اسے خدا برڑے مصائب میں بھی مبتلا کر دے گا

*Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said:
“If a believer enrages (ihtashama)
his brother, it means that he will
leave him.”*

وقال (عليه السلام) :

سخت ترین گناهان، گناهی است که گناهکار
آن را باید شمارد.

آپ نے فرمایا: سخت ترین گناہ وہ ہے جسے انسان
بلکا تصویر کر لے

*Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said:
The worst sin is that which the
one who commits it takes it lightly*

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

حکمت ۴۷۵

وقال (عليه السلام) :
الْقَنَاعَةُ ثَمَّا لَا يَغْفِدُ

قناعت مالی است که پایان نمی پذیرد.

آپ نے فرمایا: قناعت وہ مال ہے جو کبھی ختم ہونے
والا نہیں ہے

*Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said:
Contentment is a wealth that is
not exhausted*

وقال (عليه السلام) :
الْدُّنْيَا خُلِقَتْ لِغَيْرِهَا، وَلَمْ يُخْلِقْ لِنَفْهَا

دنیا برای رسیدن به آخرت آفریده شد، نه برای
رسیدن به خود.

آپ نے فرمایا: دنیا دوسروں کے لئے پیدا ہوئی ہے اور
اپنے لئے نہیں پیدا کی گئی ہے

*Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said:
This world has been created for
other than itself and has not been
created for itself*

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ حَكْمَت٤٦

وقال (عليه السلام) :
الغيبة شجب العاجز

غیبত کردن تلاش ناتوان است.

آپ نے فرمایا: غیبত کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش
ہوتی ہے

*Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said:
Backbiting is the tool of the
helpless*

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ حَكْمَتٌ ۖ

وقال (عليه السلام) :

اَنْحَلَمُ وَالَاَنَاهُ تُؤْمَانُ يُتَبَّعُهَا عُلُوُّ الْعَمَرَةِ

بردباری و درگذشتمند و متوجه آن
بلند همتی است.

آپ نے فرمایا: بردباری اور صبر دونوں جڑوں اور ان کی پیداوار کا سرچشمہ بلند ہمتی ہے

*Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said:
Forbearance and endurance are
twins and they are the product of
high courage*

وقال (عليه السلام) :
قَلِيلٌ مَدْوُمٌ عَلَيْهِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ مَلُولٍ مُنْهُ

چیز اند ک ک با اشتیاق تداوم یابد، بهتر از فراوانی
 است ک رنج آور باشد.

آپ نے فرمایا: مختصر عمل جس کی پابندی کی جاسکے
 اس کثیر عمل سے بہتر ہے جو انسان کو دل تنگ بنادے

*Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said:
 A little that lasts is better than
 much that brings grief*

وقال (عليه السلام) :
من كرمت على نفسه هانت عليه شهوته

کسی کے خود را کرامی دارو، ہوا و ہوس راخوار شمارو.

آپ نے فرمایا : جسے اس کا نفس عزیز ہوگا اس کی
نظر میں خواہشات بے قیمت ہوں گی (کہ انہیں سے
عزت نفس کی تباہی پیدا ہوتی ہے) بنادے

*Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said:
Whoever maintains his own
respect in view, his desires appear
light to him*

وقال (عليه السلام) :
مَنْ عَظَمَ صِغَارَ الْمَصَاصِبِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ كَيْبَارَهُ

کسی کے مصیبت ہائی کوچک را بزرگ شمار دندا او
را بہ مصیبت ہائی بزرگ بتلا خواهد کرد.

آپ نے فرمایا: جو چھوٹے مصائب کو بھی بڑا خیال کرے
گا اسے خدا بڑے مصائب میں بھی مبتلا کر دے گا۔

*Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said:
Whoever regards small distresses
as big, Allah involves him in big
ones*

وقال (عليه السلام) :
اذْكُرُوا انْقِطَاعَ الْلَّذَّاتِ وَبَقَاءَ التَّبعَاتِ

پایان لذت ہے، و بر جای ماندن تکنی ہے را بے یاد
آورید.

آپ نے فرمایا: یہ یاد رکھو کہ لذتیں ختم ہونے والی ہیں
اور ان کا حساب باقی رہنے والا ہے

*Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said:
Remember that pleasures will pass
away while the consequences will
stay.*

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

حکمت ۴۰۳

وقال (عليه السلام) :
مَنْ أَوْمَأَ إِلَيْ مُتَقَاوِتٍ خَذَ لَهُ اسْجِيلٌ

کسی کہ بے کار ہائی گوناگون پردازو، خوار شدہ، پیروز نہی کر دو۔

آپ نے فرمایا: جو مختلف چیزوں پر نظر رکھتا ہے اس
کی تدبیریں اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں

*Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said:
Whoever hankers after contraries
gets no means of success*

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

حکمت ۴۹

وقال (عليه السلام) :
الْقَلْبُ مُصَفَّفُ الْبَصَرِ

قلب کتاب چشم است
(آنچہ چشم بگرد در قلب نشیند)

آپ نے فرمایا: دل آنکھوں کا صحیفہ ہے

*Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said:
The heart is the book of the eye*

وقال (عليه السلام) :
مَنْ ضَنَّ بِعِرْضِهِ فَلَيَرْعِي الْمِرَاءَ

هر کس کہ از آبروی خود بیناک است از جدال پر بیزد

آپ نے فرمایا: جو اپنی آبرو کو بچانا چاہتا ہے اسے
چاہیے کہ لڑائی جھگڑے سے پر بیز کرے

*Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said:
Whoever is jealous of his esteem
should keep from quarreling*

وقال (عليه السلام) :
من الصميم تغدر المعاشر

دست نیافتن بگناہ نوعی عصمت است

آپ نے فرمایا: گناہوں تک رسائی کانہ پونا بھی ایک
طرح کی پاکدامنی ہے

*Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said:
Lack of access to sins is also a
kind of chastity*

وقال (عليه السلام) :

أَكْبَرُ الْعَيْبِ أَنْ تَعْيَبَ مَا فِيكَ مِثْلُهُ

بزرگ ترین عیب آن که چیزی را که در خود داری، بر
دیگران عیب بشماری

آپ نے فرمایا: بدترین عیب یہ ہے کہ انسان کسی عیب
کو برا کئے اور پھر اس میں وہی عیب پایا جاتا ہے

*Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said:
The greatest defect is when you
are concerned about the defect (in
others) which is already present in
yourself*

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

حکمت ۳۴۱

وقال (عليه السلام) :
يَوْمُ الْعِدْلِ عَلَى الظَّالِمِ أَشَدُّ مِنْ يَوْمٍ
أَبْجُورٍ عَلَى الْمُظْلُومِ

روز استقام کر فتن از ظالم سخت تراز ستگاری بر
مظلوم است

آپ نے فرمایا : بمظلوم کے حق میں ظلم کے دن سے
زیادہ شدید ظالم کے حق میں انصاف کا دن ہوتا ہے

*Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said:
The day of justice will be more
severe on the oppressor than
the day of oppression on the
oppressed yourself*

وقال (عليه السلام) :
الْمَسْؤُلُ حُرْثَتَيْ يَعْدُ ابْنَوْرَ عَلَى الْمَطْلُومِ

کی کہ چیزی ازا خواست اند تا وعدہ نمادہ آزاد است

آپ نے فرمایا : جس سے سوال کیا جاتا ہے وہ اس وقت
 تک آزاد رہتا ہے جب تک وعدہ نہ کر لے

*Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said:
 The person who is approached
 with a request is free till he makes
 a promiseoppressed yourself*

وقال (عليه السلام) :
الَّذَا عَيْ بِلَا عَمَلٍ كَالرَّامِي بِلَا وَثَرٍ

دعوت کندہ بی عمل، چون تیرانداز بدون کمان است

آپ نے فرمایا: بغیر عمل کے دوسروں کو دعوت دینے والا ایسا ہبی پوتا ہے جیسے بغیر چلنے کمان کے تیر چلانے والا

*Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said:
Whoever prays but does not exert
effort is like one who shoots
without a bow-string*

وقال (عليه السلام):
اَنْفَنِي الْأَكْبَرُ اِلَيْسَ عَمَّا فِي اَيْدِي النَّاسِ

برترین بی نیازی و دارایی، نومیدی است از آنچه در
دست مردم است

آپ نے فرمایا: لوگوں کے پاتھ کی دولت سے ما یوس
ہو جانا ہے بہترین مالداری ہے (کہ انسان صرف خدا
سے لولگاتا ہے)

*Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said:
The biggest wealth is that one
should not have an eye on what
others possess*

وقال (عليه السلام) :
 أَقْلُ مَا يُلْزِمُكُمْ لَهُ أَلَا تَشْعُنُوا بِنَعْمَةِ اللَّهِ عَلَى مَعَاصِيهِ

کمترین حق خدا بر عده شما این است که از نعمت های
 الی در کنایان یاری نگیرید

آپ نے فرمایا : خدا کا سب سے مختصر حق یہ ہے کہ
 اس کی نعمت کو اس کی معصیت کا ذریعہ بناؤ

*Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said:
 The least right of Allah on you is
 that you should not make use of
 His favors in committing His sins*

وقال (عليه السلام) :

اتَّقُوا مَعَاصِي اللَّهِ فِي الْخَلْوَاتِ فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ

از نافرمانی خدا در خلوت ہے بپڑیزید، زیر اہمان کہ کواہ
است، داوری لند

آپ نے فرمایا: تنهائی میں بھی خدا کی نافرمانی سے ڈرو
کہ جو دیکھنے والا ہے وہی فیصلہ کرنے والا ہے

*Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said:
Beware of disobeying Allah in
solitude because the Witness (of
that situation) is also the Judge*

وقال (عليه السلام):

لَوْلَمْ يَسْعَدِ اللَّهُ عَلَى مَصْبِيَّتِكَانَ يَجْبُ أَلَا يُعْصِي سُكْرًا لِنُعْمَّهُ

اگر خدا برگناهان وعدہ عذاب ہم نہی داد، لازم بود به
خاطر پاسکزاری از نعمت ہایش نافرمانی شود.

آپ نے فرمایا : اگر خدا نافرمانی پر عذاب کی وعید نہ
بھی کرتا جب بھی ضرورت ہی کہ شکر نعمت کی بنیاد پر
اس کی نافرمانی نہ کی جائے

*Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said:
Even if Allah had not warned of
chastisement on those who are
disobedient to Him, it will be obligatory
by way of gratitude for His favors that
He should not be disobeyed*

وقال (عليه السلام) :

لَا تُصْحِبِ الْمُلْقَ فَإِنَّهُ يُرَبِّيْنَ لَكَ فَعْلَهُ وَيُوَدَّأَنَّ كُونَ مِثْلَهُ

ہمیشین بی خرد مباش، کے کارز شست خود را زیبا جلوه داده،
دوست دارد تو ہم اتند او باشی۔

آپ نے فرمایا : بیوقوف کی صحبت مت اختیار کرنا کہ وہ
اپنے عمل کو خوبصورت بنانے کی پیش کرے گا اور تم سے
بھی ویسے بھی عمل کا تقاضا کرے گا

*Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said:
Do not associate with a fool
because he will beautify his actions
before you and wish that you, too,
be like him*

وقال (عليه السلام):
مَنْ تَذَكَّرَ بَعْدَ السَّفَرِ أَسْعَدَ

کسی کہ بے یاد سفر طولانی آخرت باشد خود را آمادہ می سازد

آپ نے فرمایا: جو دوری سفر کو یاد رکھتا ہے وہ تیاری
بھی کرتا ہے

*Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said:
Whoever keeps in view the distance
of the journey remains prepared*

وقال (عليه السلام) :

كُلُّ مُعَاجِلٍ يَسَّأْلُ الْإِنْظَارَ وَكُلُّ مُؤَجَّلٍ يَتَعَلَّلُ بِالشُّوَيْفِ

آنان کہ وقتان پایاں یافتہ خواستار ملتند، و آنان کہ ملت
دارند کوتاہی می ورزند

آپ نے فرمایا: جس کی موت جلدی آجائی ہے وہ مهلت
کام طالبہ کرتا ہے اور جس سے مهلت مل جاتی ہے وہ ٹال
مٹول کرتا ہے

*Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said:
Anyone whom death overtakes
early seeks time while the death of
anyone who is deferred puts forth
excuses for the postponement (of
doing good deeds)*

وقال (عليه السلام) :

إِذَا أَمْلَأْتُمْ قَنَبَرُوا اللَّهَ بِالصَّدَقَةِ

ہرگاہ تیہ ست شدید با صدقہ دادن، با خدا تجارت کنیں

آپ نے فرمایا : جب غربت کا شکار ہو جاؤ تو اللہ سے
صدقہ کے ذریعہ تجارت کرلو (صدقہ صرف دولت
مندوں کے لئے نہیں ہے)

*Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said:
When you fall into destitution,
trade with Allah through charity*

وقال (عليه السلام):
صَحَّةُ الْجَنَاحَدِ مِنْ قَلْمَانِ الْجَنَاحَدِ

سلامت تن در دوری از حادث است.

آپ نے فرمایا: بدن کی صحت کا ایک ذریعہ حسد کی
قلت بھی ہے

*Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said:
Health of body comes from paucity
of envy*

وقال (عليه السلام) :
مَنْ طَنَّ بَكَ خَيْرًا فَصَدِّقْ طَنَّهُ

چون کسی بے توکان نیک برد، خوشینی اور اتصدیق کن

آپ نے فرمایا : جو تمہارے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہو
اس کے خیال کو سچا کر کے دکھلا دو

*Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said:
If a person has a good idea about
you make his idea be true.*

وَقَالَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) :
مِنْ أَشْرَفِ أَعْمَالِ الْكَرِيمِ غَفْلَةٌ عَمَّا يَعْلَمُ

خود را بی خبری نماندن و چشم پوشی، از بهترین کارهای
بزرگواران است.

آپ نے فرمایا: کریم کے بہترین اعمال میں جان کرانجان
بن جانا

*Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said:
The highest act of a noble person is
to ignore what he knows*

وقال (عليه السلام) :
اْحْصِدِ الْشَّرَّ مِنْ صَدْرِكَ غَيْرَكَ بِقُلُوبِهِ مِنْ صَدْرِكَ

بدی را از سینه دیگران، با کندن آن از سینه خود، ریشه کن نما.

آپ نے فرمایا : دوسرے کے دل سے شر کا کاٹ دینا ہے تو
پہلے اپنے دل سے اکھاڑ کر پھینک دو

Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said:
*Remove evil from the chest of
others by eradicating it from your
own*

وقال (عليه السلام) :
لَا طَاعَةٌ لِخَلْقٍ فِي مَعْصِيَةِ أَنْشَأَهُ

نهج اطاعتی از مخلوق، در نافرمانی پروردگار روانیست

آپ نے فرمایا: آپ نے فرمایا: خالق کی معصیت کے ذریعہ مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاسکتی ہے۔

*Imam Ali ibn Abu Talib (PBUH) said:
No creature should be obeyed so
long as such obedience means
disobedience of the Creator.*